



سوال

(69) سموکنگ حرام یا حلال

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

سموکنگ حرام یا حلال؟ اور کیا شراب کی حرمت کی طرح اس کو بھی حرام کہنا صحیح رہے گا؟ ازراہ کرم کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیں۔ جزاکم اللہ خیر

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

سگریٹ نوشی کے نقصانات اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے اس کی حرمت میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا۔ لہذا ہر مسلمان کے لیے اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِلَى أَنْفُسِكُمْ (البقرة: 195)

”اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔“

دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 29)

”اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو بلاشبہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والے ہیں۔“

ڈاکٹر حضرات کے بقول سگریٹ میں بہت سی مضر صحت چیزیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں نشہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے سگریٹ نوشی جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

وباللہ التوفیق



محدث لیٹی

محدث فتویٰ